


بچوں کے لئے بائبل  
تحائف

یسعیاء چہ ینہ وول زمانہ وچہان



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Jonathan Hay  
Alastair Paterson

کے مطابق: Mary-Anne S.

ترجمہ کردہ: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

کی طرف سے تیار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،  
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



يسعياہ اوس اکھ نبی۔ ثمی سنز کأمی اُس لُوکن تہ وَنن یہ خداین ووَن۔ لُوکھ اُس  
نہ ہمیشہ یژھان خدایہ سنز کتھ بوزن، مگر یسعیاہ ہن ترأوو نہ زائہہ خدا پتھر۔

یسعیائِن کور ژورن

مختلف بادشاہن

ہندس دورس


منز تبلیغ۔




آہاز

حزقیہ

جو تھم



یوزیا



يوزيا بادشاهن کر يهوديه سر زمينس يروشلم شهر پيٽه حکومت۔ گوڈ کر  
خداین يوزيا هس برکت تکیاز تمی کور تییه یه خداوند سنز نظر منز ٿهیکه  
اوس۔ مگر يوزيا هس گوو گمنڈ ته رکاونی خدایه سنز فرمابرداری۔ تمس  
گوو جذام ته پیوس روزون تنهاه یوتام سه مؤد۔



بادشاه يوزيا بن كر شيطهن ورين حكومت - ييله شه مؤد تمة سندي نيچيو رطه تمة  
سنز جائے تہ تمي کر سدن ورين حكومت - خوداين کر جوتهم مس برکت تكياز  
تمی بوز تہ يہ خوداين يسعياہ تہ باقین پیغمبرن ہند ذریعہ وونمت اوس -




بادشاه جوتهم مئی اولاد اوس آہاز۔ آہاز اوس ووبو وُہرُ ییلہِ تُمی حکومت لاجہ گرن تہ  
تُم کر سدہن ورین یروشلمہ پیٹھ حکومت۔ آہازس اُس نہ خدایہ سُنز فکر۔ تُم کر  
پوتلین تہ اپزین خداین عبادت، تہ خدایہ سندن  
لُکھ کرناون تی۔ اگرچہ یسعہاہن سہ باخبر تہ  
کور، آہازن بوز نہ خدایہ سُنز خبرداری کینہہ۔  
سہ مؤد ییلہِ سہ پاژترہ وُہرو اوس۔




خداین کر دویمس بادشاه، حزاقیا ہس برکت،  
تکیاز تم کر ساری تم پوتله تہ اپر خودایہ فناہ،  
تہ کرن پزس خدایس عبادت۔ ییلہ اکھ دشمن  
سند فوجن یہہودیہس پیٹھ حملہ کور، حزاقیا  
ہس اس پتاه تمہ سند فوج چہ سٹہاہ کمزور ز  
سہ ہیکہ نہ زینتہ۔ تم وون یسعیاہ ہس سہ کر  
خدایس مددتہ خاطر دُعا۔



يسعياہ بن سوز بادشاہس يہ پيغام۔ "يہ چھ تي يہ خداوند ونان چھ: اُمس دشمنس مہ  
کھوژ۔۔۔ بہ کرن سہ ناکام۔۔۔" تمہ پتہ جلدی، خداين کور دشمن سند فوج  
حزاقياہس ستی لڑنہ بغیر واپس۔




آته رؤياہس منز  
وچہ یسعیاہ ہن  
خداوند کوتاہ  
شاندار تہ م  
قدس چہ۔



اگرچہ لوکھ یم ٹمس اندی  
اندی اُس نہ خوداہس متلق زیاد  
سُونچان کینہہ، یسعیاہ ہن  
سُونچ خداہس متلق وارِیاء۔  
اکی دوه آو ٹمس رؤیا، یہ  
چہ اکی قسمک خواب  
اُسان ییلہ نہ  
شونگتہ اُسان  
چہ کینہہ۔



خداین پرژہ یسعیاہ ہس رویاہس  
منز، "بہ کس سوزن؟" یسعیاہن  
دیت جواب، "بہ چہس یتہ - میہ  
سوز۔" سہ اوس رضامند تہ کرنہ  
خاطر یہ تمس خدا ونہ ہس، تہ  
توت گڑھی ہس یوتتہ تہ تمس  
خدا سوز ہس۔



یسعیاء بن ما اُس ہرے شاید سونچہ مت خدا ما سوزہرے ٹمس دورکین لوکن نشہ  
یمو نہ خدایس متلق زانہہ بوزمت اُس ہرے۔ مگر نہ، خوداین کور نہ تہ  
کینہہ۔ خداین وون یسعیاہ ہس پننس ملکس منز وون پنن لوکن۔ ٹمس

اوس تمن وونن ز خدایس  
چہ تہندن گوناہن پیٹھ  
شرارت۔



تته اَس باقے چیز تہ یمی یسعیاہ ہس لُوکُن وَوْنن اَس۔۔۔ اِکس شخصس متلق حاران  
کُن چیز، یُس مضبوط واتہ ناوان وول تہ تِمَن گناہو نشہ تہ تِمَن تہندین دشمنن نشہ  
بچاو۔ یہودی لُوکو وَوْنن اَس شخصس "مسیح"۔ ییلہ زنہ تِمَن تہ مسیح سوڑ نچی  
خدایس پیٹھ وومید اَس،

واریاہ لُوکھ روڈ زندہ  
یہ زانتہ زِسہ ییہ  
نہ ون زانہ۔



تمہ ساری چیزیمی یسعیاہ

ہن ووں مسیح ہس متلق،

چھ تہنڑ کتابہ منڑ لیکتھ۔


اگرچہ تمی یم چیز تہند


ظہور برونہ پانے

لیکھمت اُس، یسعیاہ ہن

یہ ووں مسیح ہس متلق

دراو پوز۔





يسعياہ ہن

وون ز خدا

دييہ پانہ امچ اکھ

نشانی۔ تمی وون،

"خیال کریو اِکس

انہرشی زوی اکھ نیچیو

تمس اَسہ ناو اِمان اُل۔"

لؤکن اَس پتہ یسعیاہ اوس خدایہ سُنَدَس  
مسیع ہس متلق وونان تکیاز اکھ زنانہ بیکہ

نہ انہرش آستہ تہ بییہ آس اکھ

شُر۔ بییہ تمی ناوک معنے چہ

خدا چہ اسہ ستی!



"یوتام اسی اکھ شُر زہویہ، یوتام اسی اکھ نیچو،  
یہ دینہ؛ تہ حکومت رُوژ تندن پھیکن پیٹھ۔  
تمہ سُنڈ ناؤ آسہ حاران کران وول، نصیحت  
کرن وول، طاقتور خدا، دائمی پروردگار، امن  
نک شہزاد۔" یسعیاہ ہس اوس پور توت یقین ز  
خدایہ سُنڈ وعدہ نیرین صحیح، شہ اوس تمہ  
انداز کتہ کران، زن تہ یہ واقعہ اوس برونٹھ پیش  
آمت۔ اتھ چہ ونان پیشن گویئ۔



يسعياہ بن وون ز مسيح آسہ عظيم تہ کر عظيم چیز۔ خداين وون يسعياہ ہس یتہ تمن  
لوکن وون ز مسيح ہس یی مصیبت تہ یی مارنہ۔ يسعياہ ہس ما آسہرے تعجب گو مت  
مسيح کیتہ پاٹھی آسہرے عظيم تہ طاقتور تہ ستی کمزور تہ زخمی۔ مگر تمی کور نہ  
خودا ہس ستی واد واد کینہہ۔۔۔۔۔ تمی دوہراؤ تیہ  
یہ خداين تمس وون۔ خودا ہن اوسس پور يقين  
دتمت تمی سنز پیش گوئی درایہ صحیح۔



مسیع اوس پکان۔ صرف یہودی لوکن ہندی خاطر ہوت نہ کینہہ۔ خداین ووں  
یسعیآہ ہس ز مسیع آسہ، "غیر یہودین خاطر اکھ گاش"۔ غیر یہودی چہ دنی ہیکہ  
ساری لوکھ یمی نہ یہودی چہ۔ خدا چہ ہر کانسہ محبت کران تہ مسیع یی ہر  
کانسہ دوپہ خار کرنہ تہ زمینی ہندس کونس کونس دیبہ نجات۔



یسعیآہ چُھ ینہ وول زمانہ وچہان

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

یسعیآہ 1، 6، 7، 9، 53

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

